



## سوال

قضا شدہ نمازوں کی ترتیب

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کیا نسیان یا جہالت کے سبب قضا ہونے والی نمازوں میں ترتیب ساقط ہو جائے گی؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس مسئلہ میں اختلاف ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ترتیب ساقط ہو جائے گی اور اس کی دلیل حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ کا عموم ہے:

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ... سورة البقرة ۲۸۶

”اے پروردگار! اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجئے۔“

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

«إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنِ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَشْرَبُوا عَلَيْهِ» (سنن ابن ماجہ، الطلاق، باب طلاق المکرہ والناسی، ح: ۲۰۴۳)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے میری امت کے خطا و نسیان اور جس پر انہیں مجبور کر دیا گیا ہو، سے درگزر سے کام لینے کا وعدہ فرمایا ہے۔“

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## فتاویٰ ارکان اسلام

عقائد کے مسائل: صفحہ 253

